

## "یہ ہے برامپٹن" شو کیس: 15 جون

**NXNE پر GTA کے شمال مغرب کی موسیقی، فلم اور ثقافت کی توجہ مرکوز ہو گئی**

برامپٹن، آن - 15 جون کو برامپٹن، ٹورانٹو کے ہر دلچیز ریولی لائیو میوزک وینو سے لطف اندوز ہو گا جس میں برامپٹن کو اپنا گھر ماننے والے انتہائی پرجوش اور ابھرتے ہوئے فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ اس میں دنیا کے ممتاز میوزک فیسٹیول نارتھ ہائی نارتھ ایسٹ (NXNE) کے ساتھ پہلی مرتبہ شراکت ہو گی، جو ٹیسٹ میکرز کلب سیریز کا ایک حصہ ہے۔ یہ سٹی میں موسیقی کا ایک انتہائی پرجوش اور دل کو موہ لینے والا منظر پیش کرے گا۔



اس موقع کی میزبانی ملٹی پلاٹینم میوزک کے پروڈیوسر ایسٹ ہاؤنڈ (EastBound) کریں گے جنہوں نے ٹریوس اسکاٹ، بنگ ٹھگ اور دیگر کئی مشہور زمانہ ٹریکس تخلیق کیے ہیں جبکہ پروگراموں کو نوئیز (ریکارڈنگ آرٹسٹ)، ڈینائز جونز (ایکسکو لیوی کے فنکاروں کے منتظم) اور ایرن ایشلے (ہپ ہاپ ایڈیٹر، NOW میگزین) کی نگرانی میں ترتیب دیا گیا ہے تاکہ برامپٹن کے کچھ پرجوش اور ابھرتے ہوئے فنکاروں کو اپنا فن پیش کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔

یہ ہے برامپٹن، شو کیس کی خصوصیات میں شامل ہیں:

- @vazmusic ویڈ
- @selenadhilton سیلینا ڈھلون
- @1phab فیب
- @EverythingOShaun ایوری تھنگ اوشان

یہ موقع انتہائی ہر دلچیز ورلڈ پریمیر "سپرفلائی" کے ساتھ بیک وقت منعقد کیا جائے گا - جو 1972 کی ایک ہر دلچیز کلاسیکی پیشکش تھی اور اس کو برامپٹن کے اپنے اور آرٹس واک آف فیم کے لیے نئے ترین مقرر کردہ ڈائریکٹر X کی جانب سے دوبارہ ترتیب دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر X کی کامیابی کی خوشی منانے کے لیے یہ ہے برامپٹن شو کیس کے دوران ساؤنڈ ٹریک کی جانب سے موسیقی بھی پیش کی جائے گی جس میں "واک ان منکس" اور "نو شیم" کی دھنیں شامل ہوں گی جو ریپر فیوچر کی جانب سے انعام یافتہ ہیں۔

**کب:** جمعہ، 15 جون 2018

**وقت:** دروازے رات 9 بجے کھلیں گے

**کہاں:** ریولی، 334 کوئین اسٹریٹ ویسٹ، ٹورانٹو

**ٹکٹس:** یہ ہے برامپٹن شو کیس کی ٹکٹوں اور رسٹ بینڈز کی قیمت \$29 ہے۔ درج ذیل پر دستیاب ہیں

[nxne.com](http://nxne.com)

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) اور [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) فیس بک۔ مزید جاننے کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ فرمائیں۔